

100  
AYAT  
POSTS

**Volume 8**

100  
آیات پوسٹس  
جلد 8



اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

جو سدا زندہ ہے

جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے

Allah: There is no god but He, the Living, the All-Sustaining.

البقرة 255





# بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط

تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے

In your hand lies the betterment  
(of everyone).

آلِ عِمْرَانَ 26





وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۰۱

جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا  
وہ ضرور راہ راست پالے گا

Whoever holds on to Allah,  
is surely led to the straight path.

آل عمران 101



## وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْذٰكِرِيْنَ ﴿٤٨﴾

اور بلاشبہ یہ (قرآن) پر ہیزگاروں کے لیے  
نصیحت ہی نصیحت ہے

So no doubt this (Quran) is direction and guidance for the  
God-fearing.

الحاقة 48





الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی  
(اللہ کے لیے) مال خرچ کرتے ہیں،  
اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔  
اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

**Who spend in the way of Allah both in plenty and  
hardship, who restrain their anger, and forgive others.  
Allah loves such good-doers.**

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝١٠٦

بیشک اس (قرآن) میں عبادت گزار لوگوں کے لیے  
کافی پیغام ہے۔

Surely, in this (Qur'an) there is a message  
conveyed to a people who worship (Allah).

الأنبياء: 106





رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  
وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے  
اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اسے معاف کرنا  
اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما

**Our Lord, forgive us our sins and our excesses in our conduct,  
make firm our feet and help us against the disbelieving people.**

آل عمران 147







فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

پس آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی  
جو کہ بہت عظمت والا ہے

So glorify the Name of your Lord, the Most Great.



تحفظِ نعمت اور اچھی چیز دیکھنے کے وقت کی دُعا

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ  
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ج

اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں)



قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَىٰ ﴿٤٠﴾

یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔

Success is surely achieved by him who purifies himself,

الأعلى: 14



استغفار سے ہو، زندگی خوشگوار

اگر تم استغفار کرو گے تو!!!

يُرْسِلِ السَّيَّءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنٍ

وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا

اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا،

اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا

نوح 11-12



فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے  
وہ دنیوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے،

So, whatever thing has been given to you is an  
enjoyment of the worldly life.

الشوریہ: 36





## ہر چیز کا جوڑا جوڑا

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ  
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں،  
اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی،  
اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ (ابھی) جانتے تک نہیں ہیں



يُرِيدُ اللَّهُ أَرْخُفَ عَنْكُمْ

اللَّهُ چاہتا ہے کہ تم ہارے ساتھ آسانی  
کا معاملہ کرے

Allah intends to make things easy on you.

النساء: 28





فَالهُكْمُ إِلَهُ وَوَاحِدٌ فَلَا أُسْلُبُوا ط

سو تمہارا معبود ایک معبود ہے

تو اسی کے فرمان بردار ہو جاؤ



إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ<sup>ط</sup>

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

بیشک اللہ تعالیٰ ہی میرا (بھی) رب ہے اور تمہارا (بھی) رب ہے۔  
سو تم اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

Allah is surely my Lord and your Lord. So, worship Him.  
This is the straight path.

آل عمران: 51




إِنِّى أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ

مَا اسْتَطَعْتُ<sup>ط</sup>

میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے

I want nothing but to set things right as far as I can.

ہود 88







تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت اور عظمت و بزرگی والا ہے۔

Glorious is the name of your Lord, the Lord of Majesty,  
the Lord of Honour.

الرحمن: 78

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اور اپنے رب کی نعمتوں کا  
ذکر کرتے رہئے

**And about the bounty of your Lord, do talk.**

الضحیٰ 11





إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

مُبَرَّكًَا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے  
جو مکہ میں ہے۔ جو برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے

The first house set up for the people is surely the one in Makkah  
having blessings and guidance for all the worlds.

آل عمران 96

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ

اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے

Allah is kind to His servants.

الشوری: 19






هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا ابَّاتٍ رَبَّهُمْ  
لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ⑪

یہ (قرآن) سرِ اِپادایت ہے  
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے،  
ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔

This is guidance, and those who reject the verses of their Lord,  
for them there is a painful punishment of the divine scourge.

الجاثیہ 11





إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ①

پیشک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔

We have sent it (the Qur'an) down in the Night of Qadr.

القدر: 1




سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى ⑩

جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑪

اور (بے خوف) بد بخت پہلو تہی کرے گا

الاعلیٰ 10-11



وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط

میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے

My Lord encompasses everything with His knowledge.

الانعام: 80





أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ ط  
مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ①٩

کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیرتے نہیں دیکھتے؟  
رحمن کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو  
وہی ہر چیز کا نگہبان ہے

Have they not looked to the birds above them spreading their wings, and (at times) they fold (them) in? No one holds them up except the RaHman (the All-Merciful Allah). Surely He is watchful of every thing.

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَوَاحِدٌ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

اور تمہارا معبود ایک ہی ہے ،  
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ،  
وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے -

Your god is one God,  
There is no god but He,  
the All-Merciful, the Very-Merciful.

البقرة: 163



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا  
وَلَا تَفْرَقُوا



سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو

آل عمران 103

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بے شک یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے  
جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے  
اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام لو،  
تو تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے  
اور ہلاکت کا شکار نہیں ہو گے


صحیح ابن حبان جلد اول حدیث نمبر 122

ط  
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے۔

And to Allah belong the most  
exalted attributes.

النحل: 60





## والدین کے ساتھ بہترین سلوک

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ  
إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا  
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو  
اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو

اور اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی یادوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں  
تو انھیں اُف تک نہ کہو، انھیں مت جھڑکو اور ان سے نرمی بات کرو

سورۃ بنی اسرائیل 23



# وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ①

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔

Woe to the curtailers

المطففين: 1







ایک اُمت



ایک قبلہ



ایک رسول



ایک اللہ

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

اور بیشک یہ تمہاری اُمت ہے، جو ایک ہی اُمت ہے  
اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو

And verily this religion of yours is one religion,  
and I am your Lord, so fear Me.

المومنون 52

وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
لَا تُحْصَوْهَا<sup>ط</sup>

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو،  
تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔

If you count the bounties of Allah,  
you cannot count them all.

النحل: 18







وَاسْتَغْفِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

اس سے استغفار کریں،  
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے

And seek forgiveness from Him. Surely He is  
Ever-Relenting.

النصر 3

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلْنَا هُدًى وَشِفَاءً ط

آپ کہہ دیجئے! کہ یہ (قرآن) تو ایمان والوں کے لیے  
ہدایت اور شفا ہے۔

Say, For those who believe, it is guidance and cure.

حم السجدة: 44





جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ  
تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا  
تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا:

وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝

اور میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔  
مجھے پوری اُمید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر  
میں نامراد نہیں رہوں گا۔

And I shall call on my Lord; and  
I hope that I shall not be unblest  
in my invocation to my Lord.

مریم 48



وَ رَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

اور آپ کے رب کی رحمت اس (دولت) سے بہتر ہے  
جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔

And the mercy of your Lord is much better  
than what they accumulate.

الزخرف: 32







إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

پس ہم کافی ہیں  
تمہاری طرف سے ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے

Surely, We are sufficient for you  
against those who deride.

الحجر 95



وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین

یتیم اور قیدی کو۔

And they give food, out of their love for Him (Allah) ,  
to the needy, and the orphan, and the captive,

الدھر: 8



## بیویوں اور اولاد کے ساتھ درگزر کے معاملات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوا هُمْ  
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑭

اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں،  
اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، اور بخش دو  
تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے

O you who believe, among your wives and your children there are some enemies for you, so beware of them. And if you forgive and overlook and pardon, then Allah is Most-Forgiving, Very-Merciful.

التغابن 14



# إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ



یہ دنیوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے۔

This life of the world is only a (momentary) benefit,

(غافر: 39)







يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ②٠

اے اہل ایمان! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو  
اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو

O those who believe, obey Allah and His Messenger,  
and do not turn away from Him while you are listening.

الانفال 20

اللَّهُ أَكْبَرُ

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ


رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے  
اس کے سوا کوئی معبود نہیں،  
وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔

So, High above all is Allah, the King, the True. There is no god but  
He, the Lord of the Noble Throne.

المؤمنون: 116





فَسُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ  
وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے  
اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو

Glorified is He in Whose hand is the absolute control of everything,  
and to Him you shall all be returned.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط

(مسلمانو) تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے

کے لیے وجود میں لائی گئی ہے،

تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو

اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

آل عمران: 110





گناہ یوں بھی مٹ جاتے ہیں

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط

بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں

سورہ ہود 114

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جہاں بھی رسول اللہ سے ڈرو،

اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی،

ترمذی 1987

مشائخ از پڑھو، صدمت و خسیرات کرو، نیکی کے دیگر کام اور کثرت سے توبہ و استغفار کرو

أَعُوذُ بِاللَّهِ  
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں  
اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔

I seek refuge with Allah from being  
one of the ignorant.

البقرة: 67





اللہ کی ہدایات پر عمل دُنیا اور آخرت کی کامیابی  
اور ان سے اجتناب  
دُنیا اور آخرت کی بربادی

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝

تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا،  
وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا  
وَأَنْحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ۝

اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی  
اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے


ظہ 123-124

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا  
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا  
اور ہم تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

O our Lord, in You alone we trust,  
and to You alone we turn for help, and to You is the final return.

(الستحنة: 4)








وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ  
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ④

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔  
ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں  
تو اسے خوشگوااری اور مزے سے کھا لو

Give women their dower in good cheer. Then, if they forego some of it, of their own will, you may have it as pleasant and joyful.




# مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا،  
مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت (لکھنے کے لیے) تیار۔

Not a single word is uttered by one  
but there is a watcher near him, ready (to record).

ق: 18





# ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ

## هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢

اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے

This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those  
conscious of Allah

البقرہ 02

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

عَبُوسًا قَطْرِيرًا ۝

پیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں  
جو اُداسی اور سختی والا ہوگا۔

In fact, we are fearful of a day, from the side of our Lord,  
that will be frowning, extremely malignant.

الدھر: 10





# اسلامی اخوت اور بھائی چارہ

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں

الحجرات 10

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ مبارک میں ہے:  
سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو

صحیح البخاری 6064



رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا  
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور کو پورا کر دے  
اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

Our Lord, perfect for us our light, and forgive us.  
Indeed you are powerful over every thing.



التحریم: 8



وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں  
اور جب ان سے جہالت والے بات کرتے ہیں  
تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے،

**And the servants of Rehman are those who walk on the earth in  
humility, and when the ignorant address them, they say, "Peace!";**

الفرقان 63



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
وَكَونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو  
اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔

O you who believe, fear Allah,  
and be in the company of the truthful.

التوبہ: 119





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ<sup>ط</sup>

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے  
سے پہلے پہلے کچھ خرچ کرو جس دن نہ تو کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی  
اور نہ دوستی کام آئیگی اور نہ کوئی سفارش چلے گی

O you who believe! Spend from what We have given to  
you before a day comes when there will be no trading,  
no friendship and no intercession.

البقرة 254



تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے  
اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا،  
اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔

Their greeting, on the Day when they will meet Him, will be, Salam .  
And He has prepared for them a noble reward.

الأحزاب: 44







رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

اے میرے رب!

مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا

O my Lord, give me wisdom,  
and make me join the righteous,

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ط

بیشک اللہ ہیے دانے اور گٹھلیے  
کو پھاڑنے والا ہے۔

Surely, Allah is the one who splits the grain  
and the date-stone (for sprouting).

الانعام: 95





بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو،  
اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ  
ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو

النساء 19



إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں  
جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

Indeed, I fear Allah, the Lord of the worlds.

المائدہ: 28



مومنین اور نیک لوگوں کے لیے محبت

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ ﴿٩٦﴾

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے  
رحمن ان کے لیے محبت پیدا فرمادے گا

Surely, those who believe and do righteous deeds,  
for them the All-Merciful (Allah) will create love.

مریم 96





إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا  
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ۝

جو لوگ ہم سے (آخرت میں) آمنے کی  
کوئی توقع ہی نہیں رکھتے،  
اور دنیوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں،  
اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔

یونس: 7



## نماز کی پابندی کریں

جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝

تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟

(تو ان کا پہلا جواب ہو گا)

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝

وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ (17)

اور جو مصیبت تجھ پر آجائے اس پر صبر کر۔

یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

and observe patience on what befalls you.  
Surely, this is among the matters of determination.

(لقمان: 17)





114 وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

ہم کو رزق دے  
اور تو بہترین رازق ہے

And provide for us, and You are the best of providers.

المائدہ 114





فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ  
يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

پس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے  
تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے

So, whomsoever Allah wills to guide,  
He makes his heart wide open for Islam,





وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ  
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ<sup>12</sup>

اور اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو،  
پس اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر  
صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے

Obey Allah, and obey the Messenger. But if you turn away,  
then Our Messenger has only to convey the message clearly.

التغابن 12

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ط

اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔

Allah has written (in His pre-destined decree), :I will certainly prevail, both I and My messengers.

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)

یقین رکھو کہ اللہ بڑا قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔

Surely Allah is All-Strong, All-Mighty.

(المجادلة: 21)



وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں  
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟  
اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے

**Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.**

النور 22



إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط

یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا  
جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔

**Surely, Allah does not change the condition  
of a people unless they change themselves**

الرعد: 11




وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے  
اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے

And We have revealed to you the Book, an exposition of everything,  
and guidance, and mercy, and glad tidings for the Muslims.

النحل 89





فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ

جو حقیقی بادشاہ ہے۔

So High above all is Allah, the True King.

طہ: 114



# وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

اور جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں  
ان کو خوشخبری سنادو

And give good news to those who turn to Him with humbleness

الحج 34



وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ

اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے  
وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے،

And whoever believes in Allah,  
He guides his heart.



التغابن: 11




إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ③

بیشک آسمان میں اور زمین میں  
ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں

Verily, in the heavens and the earth are signs  
for the believers.

الجاثیہ 3



# وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّجَلًّا ط

اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ  
اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آجائے،  
جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔

It is not the choice of a person to die without the will of Allah,  
death being a time-bound destiny.



آل عمران: 145



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ①④

برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر خالق

So, glorious is Allah, the Best of the creators.

المؤمنون 14



وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ①④

اور وہ بہت بخشنے والا،  
بہت محبت کرنے والا ہے۔

And He is the Most-Forgiving,  
the Most-Loving,

البروج: 14





إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے  
تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں  
اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں  
تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں  
اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں

Certainly, the believers are those whose hearts are filled with awe when (the name of) Allah is mentioned; and when His verses are recited to them, it makes them more developed in faith; and in their Lord they place their trust.

الانفال 2

سَيِّدُ كَرْمٍ مِّنْ يُّخْشَى ⑩

جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا،  
وہ نصیحت مانے گا۔

The one who fears (Allah) will observe  
the advice,

الأعلى: 10





فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

پس! اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں،  
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے

Then pronounce the purity and praise of your Lord, and seek forgiveness from Him. Surely He is Ever-Relenting.

النصر 3

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

بیشک اللہ توبہ کرنے والوں کو  
اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

Surely Allah loves those who are most repenting,  
and loves those who keep themselves pure.

البقرة: 222





إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ<sup>88</sup>

میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے،  
اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے،  
اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے  
اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں

I want nothing but to set things right as far as I can. My ability to do any thing comes from none but Allah. In Him alone I have placed my trust and to Him alone I turn in humbleness.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَبَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا  
سورات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا کر دیا  
اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا

We have made the night and the day two signs,  
then We made the sign of night marked by darkness  
and the sign of day bright,

بنی اسرائیل: 12







وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑤

اور وہ سب پر غالب  
اور رحم کرنے والا ہے

And He is the Mighty, the Very-Merciful.

الروم 5



مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ  
وَمَا يُمْسِكُ ۙ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔  
اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں۔  
اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

Whatever blessing Allah opens for the people, there is none to hold it back,  
and whatever He holds back, there is none to release it thereafter.  
He is the Mighty, the Wise.

فاطر: 2



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هٰذَا هُدًى وَٱلَّذِیْنَ كَفَرُوا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ  
لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِیْمٍ ۝۱۱

یہ (قرآن) سر اپا ہدایت ہے  
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے،  
ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔

This is guidance, and those who reject the  
verses of their Lord, for them there is a  
painful punishment of the divine scourge.

الجاثیہ 11



مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ط

جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو،  
تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔

Whoever desires honor,  
then all honor lies with Allah alone.

فاطر: 10







إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے  
تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا۔ بس وہ ہو جاتی ہے

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے  
اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا  
٣١

یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔

Of course, the God-fearing will  
have great achievement.

النبا: 31





وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

اور (اے نبی) اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں،  
تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے،  
پس انھیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ راہ راست پر آجائیں

**When My servants ask you about Me, then (tell them that) I am near.  
I respond to the call of one when he prays to Me; so they should respond  
to Me, and have faith in Me, so that they may be on the right path.**

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا  
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے  
تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

His practice, when He intends to do something, is no more than  
He says, Be , and it comes to be.

یس: 82





## ہر چیز کا جوڑا جوڑا

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ  
وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وِمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں،  
اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی،  
اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ (ابھی) جانتے تک نہیں ہیں

یس 36





إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينُ ۝

بیشکہ اللہ ہی روزیہ دینے والا،

زور آور، زبردست ہے۔

In fact, Allah is the All-Sustainer,  
Possessor of power, the Strong.

الذاریات: 58



## بیویوں اور اولاد کے ساتھ درگزر کے معاملات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ  
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑭

اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں،  
اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو، اور بخش دو  
تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے

O you who believe, among your wives and your children there are some enemies for you, so beware of them. And if you forgive and overlook and pardon, then Allah is Most-Forgiving, Very-Merciful.

التغابن 14



رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبِعَادَ ۝

اور اے ہمارے پروردگار ! ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے  
جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے،  
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے۔  
یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔

آل عمران: 194







وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور اللہ سے ڈرتے رہو  
اور خوب جان لو کہ تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے،  
اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو

And fear Allah, and know that you are to meet Him,  
and give good news to the believers.